

20032 - روزے کی حالت میں بیوی سے خوش طبعی کرنے کا حکم

سوال

کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے ؟

میری بیوی مجھ سے یہ مطالبہ کرتی رہتی ہے کہ میں روزے کی حالت میں اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں ، لیکن میں نے اسے کہا کہ روزے کی حالت میں ایسا کہنا جائز نہیں ، لیکن وہ کہتی ہے کہ جائز ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

مرد روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے خوش طبعی کرسکتا ہے ، اسی طرح بیوی کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اپنے خاوند سے روزے کی حالت میں خوش طبعی کرلے ، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ دونوں اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکتے ہوں کہ انزال نہ ہونے پائے ، اور اگر انہیں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کہ شدید قسم کی شہوت ہونے کی بنا پر اس کا انزال ہو جائے ، تومنی کے اخراج سے روزہ فاسد ہو جائے گا ۔

لہذا ایسے شخص کے لیے بیوی سے خوش طبعی کرنا جائز نہیں ، کیونکہ وہ ایسے کرنے سے اپنا روزہ فاسد کرلے گا ، اور اسی طرح مزی کے نکلنے کا خدشہ ہو ۔

دیکھیں الشرح الممتع (6 / 390) ۔

روزے کی حالت میں انزال ہونے سے محفوظ رہنے والے شخص کے لیے بیوی سے بوس وکنار کرنے کی دلیل یہ ہے کہ :

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے روزہ کی حالت میں بوس وکنار کیا کرتے تھے ، اور انہیں اپنے آپ پر تم سے زیادہ کنٹرول تھا ۔

صحیح بخاری حدیث نمبر (1927) صحیح مسلم حدیث نمبر (1106)

اور ایک حدیث میں ہے کہ :

عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا روزہ دار بوسہ لے سکتا ہے ؟

تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے :

اس سے پوچھ لو (ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے) ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے ۔

صحیح مسلم حدیث نمبر (1108) ۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

بوسہ کے علاوہ معانقہ اور دوسرے ابتدائی کام کے حکم کے بارہ میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کا حکم بھی بوسے کا حکم ہی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ۔ اھ دیکھیں الشرح الممتع (6 / 434) ۔

لہذا اس بنا پر آپ کا صرف اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں ، یا وہ آپ کو یہ کہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں ، روزے کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں دیتا ۔

واللہ اعلم ۔